



የኢትዮጵያ  
የፈዴራል

ስም የተዘጋጀ ነው በቃል  
ስም የተዘጋጀ ነው በቃል

171-M(F2)/IUL/2023/100

የፈዴራል ማረጋገጫ

2023 27

የፈዴራል ማረጋገጫ

PC-171/2023/W121

የፈዴራል ማረጋገጫ

የፈዴራል ማረጋገጫ

የፈዴራል ማረጋገጫ

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

# ١ شَهْرُ مُحَمَّد

፳፻፲፭ ዓ.ም. ቀን ከፌዴራል ማስተዳደር የሚያስፈልግ የፌዴራል



وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

وَمُؤْمِنٌ بِالْحَقِّ وَمُنْهَىٰ نَعْمَلَتْهُ هُنَّ الْمُفْلِحُونَ

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

وَمُرْتَبَةٌ مِّنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَامِ، وَمُرْتَبَةٌ مِّنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَامِ، وَمُرْتَبَةٌ مِّنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَامِ،

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

سُورَةِ حُمَرٍ ۖ ۗ ۚ ۖ ۖ ۖ

#	رئیس کمیٹی	نام و مکان	تاریخ
1	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 1)	
2	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 2)	
3	<input type="checkbox"/>	کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 6)	
4	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 7)	
5	<input type="checkbox"/>	وہ کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 8) اور پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 9)	
6	<input type="checkbox"/>	وہ کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 10) اور پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 11)	
7	<input type="checkbox"/>	وہ کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 12) اور پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 13)	
8	<input type="checkbox"/>	کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 14) اور پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 15)	
9	<input type="checkbox"/>	کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 16)	
10	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 17) اور پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 18)	
11	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 19)	
12	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 20)	
13	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 21)	
14	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 22)	
15	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 23)	
16	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 24)	
17	<input type="checkbox"/>	پیغمبر رضی اللہ عنہ فرمائیں کمیٹی کے رئیس کمیٹی کے عہدے میں مدد و مشورہ (جائزہ 25)	

وَمُرْتَبَةٌ مِّنْ نَّاسٍ مُّنْهَمَّةٍ، وَمُرْتَبَةٌ مِّنْ أَجْرَ مُنْهَمَّةٍ

## جُنْدُوْر

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(٣) - مَوْجَعَةُ الْمَرْجَعِ - مَوْجَعَةُ الْمَرْجَعِ

### Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS, ..... [name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Project no ..... issued by the Ministry of Communication, Science & Technology on ..... for construction of ..... [name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ..... [name of Bank] of .....  
..... [name of country] having our registered office at .....  
..... (hereinafter called "the Bank") are  
bound unto ..... [name of Purchaser] (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of  
\* ..... for which payment well and truly to be made to the said Purchaser,  
the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ..... day of ..... 20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;  
or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

  - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
  - (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
  - (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

\* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ..... days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

**DATE** **SIGNATURE OF THE BANK**

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

جے خروج - 4 (جے خروج سریں کے سرچارج - جے خروج ۹۰ ۰۰

## Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To: \_\_\_\_\_  
[name & address of Purchaser]

WHEREAS ..... [name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. ..... dated ..... to execute ..... [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of \* ..... [amount of Guarantee] ..... [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of ..... [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

\*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

**SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR**

Name of Bank \_\_\_\_\_

## Address

[View more](#) 

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُونِ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمَرْءَةِ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمَرْءَةِ

## Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: \_\_\_\_\_

[name & address of Purchaser]

*[name of Contract]*

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, .....  
..... [name and address of Supplier] (hereinafter  
called "the Supplier") shall deposit with .....  
..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance  
under the said Clause of the Contract in an amount of ..... [amount of Guarantee]  
..... [amount in words].

We, the .....  
[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to  
guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to  
..... [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right  
of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding  
\* ..... [amount of Guarantee] .....  
..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between ..... [name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition or modification.

\* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until ..... [name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly

SIGNATURE AND SEAL: \_\_\_\_\_

**NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION**

“**جَمِيعُ الْكُلُوبِ مُتَّهِمٌ بِالْفَحْشَاءِ، وَجَمِيعُ الْأَرْجُونِ مُتَّهِمٌ بِالْمُنْكَارِ**”

٦ - حِمْرَوْنَ

ج ۶ حروف

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

جَرْوَى ٧ (جَرْبَرْسَعْد)

جَرْجَرٌ مُّرْجَعٌ مُّرْسَلٌ مُّرْسَلٌ



2- دُوْرَةٌ مُّكَوَّنةٌ مِّنْ سَبْعَةِ مُّؤْمِنَاتٍ (جَمِيعُهُنَّ مُّؤْمِنَاتٍ)



ରମେଶ୍ ପାତ୍ର

خ

۲۷۳

## • የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የሚመለከት ደንብ መሆኑን ንግድ ተወስኗል

-3 የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት ( ትኩረት ትኩረት ትኩረት ) 20

- የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት 02 ትኩረት ትኩረት

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት 03 ትኩረት ትኩረት

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት ማስተካከለ

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት 05 ትኩረት ትኩረት

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት ማስተካከለ

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት 10 ትኩረት ትኩረት

የትክክለኛ

-4 የትክክለኛ ትኩረት ( ትኩረት ትኩረት ትኩረት ) 10

• የትክክለኛ ትኩረት 5 ትኩረት ትኩረት ትኩረት

• የትክክለኛ ትኩረት 10 ትኩረት ትኩረት ትኩረት

• የትክክለኛ ትኩረት 10 ትኩረት ትኩረት ትኩረት

-5 የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት የትክክለኛ

• የትክክለኛ ትኩረት ማስተካከለ አይነት 05 ትኩረት ትኩረት

وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ مُجْرِمًا، وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ حَسَنًا

جَهْرَوْنَ 8 (جَهْرَوْنَ ٩٠)

#	مَوْعِدٌ	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي)	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي)	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي)
01	سَهْلَةٌ مُّهْلَكَةٌ رَّحْمَةٌ مُّهْلَكَةٌ	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي) سَهْلَةٌ مُّهْلَكَةٌ رَّحْمَةٌ مُّهْلَكَةٌ	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي) سَهْلَةٌ مُّهْلَكَةٌ رَّحْمَةٌ مُّهْلَكَةٌ	تَوْجِيهٌ (بَرَانِي) سَهْلَةٌ مُّهْلَكَةٌ رَّحْمَةٌ مُّهْلَكَةٌ

..... حَرَقْتُمْ وَهُنَّ مُحْكَمُونَ -

مَرْجِعُهُ مَنْ يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَا يَرَى فِي الظُّلُمَاتِ هُوَ أَكْبَرُ  
وَالْمُسْتَقْدِمُ بِالْأَوَّلِ وَالْمُسْتَقْدِمُ بِالْآخِرِ  
فَإِنَّمَا يَنْهَا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ  
فَمَنْ يَنْهَا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ

وَمُؤْمِنٌ بِهِ وَمُؤْمِنٌ بِهِ وَمُؤْمِنٌ بِهِ وَمُؤْمِنٌ بِهِ

جَرْوَى - ٩ (جَرْوَى تَرَكَى تَرَكَى)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مُحَمَّدٌ مُّحَمَّدٌ مُّحَمَّدٌ مُّحَمَّدٌ

وَمُؤْمِنٌ بِمَا أَنزَلْنَا وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلْنَا - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْرَةٍ

١. دَمْسَرَةُ رَسَرَةُ وَسَرَوْبَرَةُ دَجَنَّدَهُ

• 2 / مَوْتَرْ بِهَدْيَةٍ مُّبَارَكَةٍ مُّبَارَكَةٍ

جُوْتَرْجِيْخَانْ/هُوْجُورْدَى سَرْمَى:	جُوْتَرْجِيْخَانْ/هُوْجُورْدَى سَرْمَى:	جُوْتَرْجِيْخَانْ/هُوْجُورْدَى سَرْمَى:
سَرْمَى هُونْ:	سَرْمَى هُونْ:	سَرْمَى هُونْ:

• 3 . مَوْبِدٌ وَمَوْبِدٌ

<p style="text-align: right;">دَارُ الْمَوْعِدِ</p> <p>دَارُ الْمَوْعِدِ مَوْسِيٌّ      دَارُ الْمَوْعِدِ دُخُولُهُ بِرِحْمَةِ رَبِّهِ      دُخُولُهُ بِرِحْمَةِ رَبِّهِ، وَ دُخُولُهُ بِرِحْمَةِ      دُخُولُهُ بِرِحْمَةِ رَبِّهِ (دُخُولُهُ بِرِحْمَةِ رَبِّهِ):</p>	
---	--

٤. دَرْجَاتُ الْمُؤْمِنِينَ

مُؤْمِنٌ: شهادت: حَسْبُهُ: سَرَّهُ:

፳፻፲፭ ዓ.ም. በመሆኑ ስራውን መሆኑን የሚያስተካክለ የፌዴራል ነው

سرعه:  $\frac{d\theta}{dt} = \omega$  ناشر سرعت  $\omega$  را میتوان با فرمول زیر محاسبه کرد:

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُهُ لِمَا فَعَلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دِیْر سَمَقْبَرَهُ اَنْجَوْهُ عَزِيزْهُ مُسْتَرْهُ عَزِيزْهُ

"وَسُرُوفٌ وَلِلْمُهَاجِرِينَ لِيَتَذَكَّرُوا مِنْ أَنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ" - آیٰ ۱۷۰

١. حَدَّدْ سَعْدَ الْجَوَادِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدْ	حَدَّدْ سَعْدَ الْجَوَادِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدْ	حَدَّدْ سَعْدَ الْجَوَادِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدْ
سَعْدَ:	مُؤْمِنَةً:	سَعْدَ:
(وَرَأَ قَبْرَ سَعْدٍ فَوَجَدَ مَوْلَى سَعْدٍ مَوْلَى سَعْدٍ)	سَعْدَ:	سَعْدَ:

3. دَمْدَسْكَةَ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ		جُورْجِيَّعْ نَهْجُونْ / هَيْ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ:
جُورْجِيَّعْ نَهْجُونْ / هَيْ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ:		جُورْجِيَّعْ نَهْجُونْ / هَيْ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ:
جُورْجِيَّعْ نَهْجُونْ / هَيْ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ:		جُورْجِيَّعْ نَهْجُونْ / هَيْ حَرَقَةَ وَهَوْرَبَيْفُونْ مَرَّنْدَهَ بَلْزُونْ:

<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>
<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>
<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>دَارُ الْمَوْعِدِ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>

وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَ لِمَنْ يُرِيكُمْ مُّهَاجِرَةً

جَنْدُونَ وَمَوْلَانَ وَرَسُولَ اللَّهِ

۱۰۳

(سر) پریوریتیزیشن اسکرین داریوں سے سیریز کا مدد فراہم کرنے والے ہوں۔ ریکارڈنگ اسکرین ریکارڈر پریوریتیزیشن اسکرین داریوں کو فراہم کر دیں۔

(م) ایک مخصوصہ سرگرمی کے طور پر اسے دیکھا جائے گا۔

(۷) مکانیزم انتقال این اطلاعات در بین سلول های اندامی می باشد.

سَرْتُمْ: حَقِيقَةٌ: سَوْدَانٌ: مُؤْمِنٌ: مُؤْمِنٌ:

۲۰۱۷-۰۹-۰۶

۱۰۰۰ دلاری خود را می خواهد

٢٠٠ سراج: د ۳۵۰ میلیمتر ناچاری سرمه تهیه کرد و آن را در ۱۰۰ میلیمتری خودرو قرار داده بسته باشند.

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

وَمُؤْمِنٌ بِمَا أَنزَلْنَا هُنَّ الظَّاهِرُونَ وَهُنَّ الظَّاهِرُونَ




وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

مر. حمزة علامة فقيه وشاعر ورسان ومحامي ووزير في حكومة محمد علي كمال رئيس وزراء مصر.

• 3

۴



۵۰۵ جملہ ۱۷

م. تاً سَرْتَ حَمْرَى تَرْكَو 10 (حَرَّةُ) وَ تَسْرِيْسَ تَرْكَو رَقْبَهُ كَمْبَو نَجْدَهُ تَرْكَو رَقْبَهُ كَمْبَو حَمْرَى

## ٦. جوہری تحریر کے مطابق

۷۔ میرزا جوہری شاہ کے نام سے مشہور تھے۔

وَمُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ

(سر) ۱۵% (۱۵٪) گزینه ای را که در مجموع ۱۵٪ از مجموع مبالغ پرداخت شده است، باید از مجموع مبالغ پرداخت شده کمتر باشد.

፩ (፳) የፌዴራል ተቋርጓል ነው፡፡ ይህንን ስለመሆኑ የፌዴራል ተቋርጓል ነው፡፡ ይህንን ስለመሆኑ የፌዴራል ተቋርጓል ነው፡፡



۱۵۰ (عمرتہ وہنہ وہ) اور جو کسی بھی سفر میں شرکت کرے تو اس کا نام



٨. جگہ فوجیوں کی تحریک کا ایک نام

۱۰- مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے تجربے کا شرح کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔

۱۰۷۳-۱۰۷۴. میرزا علی خان

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،



وَمَنْ يُعَذِّبُ الْكُفَّارَ إِلَّا هُوَ أَكْبَرُ فَإِنَّمَا نَسْأَلُهُ عَنِ الْأَوْيُودِ فَإِنَّمَا  
يَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ وَمَنْ يُعَذِّبُ الْكُفَّارَ إِلَّا هُوَ أَكْبَرُ فَإِنَّمَا نَسْأَلُهُ عَنِ الْأَوْيُودِ

١٠. نے اپنے تحریر کر کر میں اپنے سارے تحریر کو سمجھ لے گا۔

.11. *תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה*

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

۱۰۰۰ نیز رخانی خوش بود و میتوانست در هر کسی از این افراد

۱۰۰۰ نیز این مجموعه را بخوبی می‌توان در میان اسناد معتبر علمی معرفی کرد.

س. ۵۰۰۰ ریالیتی خود سوچنده کسری فرماندهی، رئیسیتی فرماندهی و فرماندهی

۶۰۰ نیز راجه خود را فرستاد و خود را در سرمهش از پسران خود میگردید.

۳۰۰ میلیون دلار را در این سال باید برای این پروژه هزینه کرد.

۷- مکانیزم انتشار و توزیع مواد در گلخانه های بزرگ

۰۲) میرزا علی شریعتی (۱۸۷۵-۱۹۴۳) از علمای اسلامی ایرانی بود که در حوزه علمیه قم فعالیت داشت. او از بنیادگران مکتبه علمیه قم و مؤسس انجمن اسلامی ایران بود.



میراث درست . 13

۰۲ (ج) ترکیبی تحریر نہ کرے۔

۱۴. جو سر گھوڑے کا ملکہ تھا۔

س. د. تَعْرِفُ (ر) وَ رَجُلُهُ مُؤْمِنٌ بِالْحَقِّ وَ مُؤْمِنٌ بِالْحَقِّ

15. مکانیزم انتقال اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی

وَمُؤْسِرٌ لِلْجُنُوبِ وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ، وَمُؤْسِرٌ لِلشَّمَاءِ،

۱۶ . میرزا علی شریعتی

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَرْضِ  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَنْهَارِ

۱۸ . مکالمه های فارسی



جیسا کے جو ۱۹

جَرْهَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ سَعْدَ الْمُسْلِمِيْنَ.

.20. **ج** **م** **س** **و** **ت** **ب** **ل** **ن** **ر** **م** **س** **و** **ت** **ب** **ل** **ن** **ر**

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

መ. 21

۱۰۶ اگرچه میتواند بسیاری از این اتفاقات را تفسیر کند، اما این اتفاقات را میتوان با توجه به اینکه این اتفاقات را در آن زمانی که ایشان در اینجا بودند و در آن زمانی که ایشان از اینجا خارج شده بودند، تفسیر کرد.

جعفر و مرتضی . 22

۲۳

جَرْفُورِجَاجَ وَ قَبَسَرَ لَهُ دَمَوَ وَ مَدَمَوَ جَمَسَرَ مَسَرَسَرَ وَ مَسَرَسَرَ

وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُؤْسِرٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ، حَمْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

۱۶۷

১০৪

جَرْوَى لِعَلَى مُهَاجِرَةِ

**مَرْسَدٌ:** مَكْفُورٌ سَعْيٌ شَوَّافٌ وَمَرْسَدٌ قَلْبٌ حَمَّارٌ وَمَرْسَدٌ رَّسَدٌ

፳፻፭፻፡ የ፲፻፭፻ ዓ.ም. በ፲፻፭፻ ዓ.ም. ስምምነት እንደሆነ ተመርሱ ይችላል

مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى

۱۰

כָּלְבָּנָן וְרַבִּיבָּה

مَرْسَى: مُجَاهِد

ગુરૂ પદ્માનાભ

مکتبہ ملیعہ نورانی

۱۰

۲۰

A254067: سَرْبِرَةٌ حَرْقُورٌ

۱۷

٢- سَرَيْرٌ: سَرَيْرٌ سَرَيْرٌ سَرَيْرٌ سَرَيْرٌ سَرَيْرٌ

مکتبہ میرزا


حَرْوُرٌ حَرْجِلٌ حَرْجِلٌ حَرْجِلٌ حَرْجِلٌ حَرْجِلٌ حَرْجِلٌ

۱۰

وَمُرْكَبٌ بِهِ مَعْلُومٌ نَّاجِيٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمُرْتَبٌ بِهِ مَعْلُومٌ حَمْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

କୁମାର ପାତ୍ର

(۲) مُسَرَّتْ حَرَّةْ



二  
ج

( ۹ )

#	مَوْسِعٌ	جَرْمُونْ	جَرْمُونْ	جَرْمُونْ
وَسَرٌ	جَرْمُونْ	جَرْمُونْ	جَرْمُونْ	جَرْمُونْ



وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ مُجْرِمًا، وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ حَسَنًا

۳ میرزا

( ٢٠ ) مَوْسَى لِلْمُتَّرَجِّلِ

1	መመልከት የዕድገት በኋላ ተስተካክለ ስርዓት እና ተስተካክለ ስርዓት (በኋላ)
1.1	ስርዓት
1.2	ጥሩ ተስተካክለ ስርዓት
1.3	ጥቃቅ
1.4	ጥቃቅ ተስተካክለ ስርዓት
1.5	ጥቃቅ ተስተካክለ ስርዓት
1.6	ጥቃቅ ተስተካክለ ስርዓት
1.7	ጥቃቅ ተስተካክለ ስርዓት
1.8	ጥቃቅ ተስተካክለ ስርዓት

وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ مُحْسِنًا وَمَنْ يَعْمَلُ مُظْلِمًا فَلَا يُجْزِي لِغَيْرِهِ

٤

( ٢٠ ) مَوْسَى لِلْمُهَاجِرَةِ

1			
1.1	سرسر	سرسر	
1.2	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
1.3	خوچو سرسر / خوچو سرسر	خوچو سرسر / خوچو سرسر	
1.4	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
1.5	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
1.6	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
1.7	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
2			
2.1	خوچو سرسر	سرسر	
2.2	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
2.3	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
2.4	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
2.5	9790052	خوچو سرسر	
2.6	خوچو سرسر	خوچو سرسر	
2.7	@police.gov.mv procurement@police.gov.mv	خوچو سرسر	